


فخر کریں اپنے منہ کی صحت پر

منہ کی صحت خوشی اور تندرستی کو متاثر کرتی ہے




چینی دانتوں
کے سڑنے کی سب
سے بڑی وجہ ہے

بہتر زندگی کے لئے کم
چینی استعمال کریں



فخر کریں اپنے منہ کی صحت پر

منہ کی صحت خوشی اور تندرستی کو متاثر کرتی ہے




منہ کی صحت برقرار
رکھنے کے لئے باقاعدگی
سے برش اور فلاس کیا
کریں



فخر کریں اپنے منہ کی صحت پر

منہ کی صحت خوشی اور تندرستی کو متاثر کرتی ہے




خوش نودی اور
تندرستی کے لئے
اپنے منہ کی صحت کا
خیال رکھیں

آپ کے منہ کی صحت
منسلک ہے آپ کے جذباتی،
سماجی، ذہنی اور مجموعی طور پر
جسمانی فلاح و بہبود کے لئے

فخر کریں اپنے منہ کی صحت پر

منہ کی صحت خوشی اور تندرستی کو متاثر کرتی ہے



اپنے دانتوں کے
ڈاکٹر سے باقاعدگی
سے مشاورت کریں

ایک اہم
عادت خوشگوار
زندگی کے لیے